

## 13658- نشانہ بازی کی ٹریننگ کے لیے حیوانات کو ہدف بنانا جائز نہیں

سوال

میں نشانہ بازی کی ٹریننگ کے لیے ایک خرگوش کو نشانہ بنا کر قتل کیا، اور پھر اسے دفن کر دیا، جب میں نے ایسا کیا تو مجھے بہت تنگی محسوس ہوئی، میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں اسلامی حکم کیا ہے؟

پسندیدہ جواب

بلاشک و شبہ آپ نے جس فعل کے مرتکب ہوئے ہیں وہ شرعاً حرام ہے اور جائز نہیں، اور یہ کام حیوان کو اذیت اور عذاب دینا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

1- عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ایک عورت کو بلی کی بنا پر عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اس نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی تو اس کی بنا پر وہ عورت آگ میں داخل ہو گئی، اس عورت نے جب اسے باندھ رکھا تھا تو نہ اسے کھانا پانی دیا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیدے وغیرہ کھا کر گزارا کرتی“

صحیح بخاری حدیث نمبر (2236) صحیح مسلم حدیث نمبر (2242)

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

حدیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عورت اس معصیت کی بنا پر آگ میں داخل ہوئی۔

2- ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن یحییٰ بن سعید کے پاس گئے تو بنو یحییٰ کے غلاموں میں سے ایک نے مرغی کو باندھ کر پھینکا ہوا تھا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مرغی کے پاس گئے اور اسے کھول دیا، پھر اس مرغی اور غلام کو ساتھ لے کر آئے اور کہنے لگے:

اپنے اس غلام کو ڈانٹو، اس نے اس پرندے کو قتل کرنے کے لیے باندھ رکھا تھا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے جانور وغیرہ کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا

صحیح بخاری حدیث نمبر (5195) صحیح مسلم حدیث نمبر (1958)

اور مسلم شریف کے لفظیہ ہیں کہ:

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی“

تصبر کا معنی ہے کہ: جانور کو باندھ کر بطور ٹارگٹ استعمال کیا جائے۔

3- ایک حدیث میں ہے کہ:

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس چیز میں بھی روح ہو اسے ٹارگٹ مت بناؤ“

صحیح مسلم حدیث نمبر (1957)۔

حدیث میں استعمال شدہ لفظ ”غرض“ کا معنی حدف ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

قولہ: ”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا“

اور ایک روایت میں ہے:

”جس چیز میں بھی روح ہو اسے ٹارگٹ  
مت بناؤ“

علماء کرام کا کہنا ہے کہ: صبر البھائم:  
یہ ہے کہ جانور کو زندہ باندھنا تاکہ اسے نشانہ بنا کر قتل کیا جائے،

اور یہی معنی ان الفاظ کا ہے:

”جس چیز میں روح ہے اسے ٹارگٹ مت  
بناؤ“

یعنی: زندہ حیوان کو حدف نہ بناؤ۔ جس  
طرح حمزہ وغیرہ کا حدف اور ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، اور اس حدیث میں وارد ہونے نھی  
تحریم کے لیے ہے، اور اسی لیے اس کے بعد والی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی  
روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے بھی ایسا کیا اللہ تعالیٰ اس  
پر لعنت کرے“

اور اس لیے بھی کہ یہ حیوان کے اذیت  
اور تعذیب کا باعث، اور اسے تلف اور ضائع کرنے، اور اس کی مالیت کو ضائع کرنے، اور  
اگر وہ جانور ذبح ہونے والا ہو تو اسے ذبح کرنے سے رہ جانے کا باعث ہے، اور اگر وہ  
ذبح کرنے والے جانور میں سے نہ ہو تو اس کا نفع ضائع کرنے کا سبب ہے۔

دیکھیں: شرح مسلم للنووی (108/13)

.)

اس لیے آپ پر اس عمل سے سچی توبہ و  
استغفار کرنا واجب ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ  
معاف کر دے۔

اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راہ کی راہنمائی  
کرنے والا ہے۔

واللہ اعلم۔